

2005 ذہنی صلاحیت کا قانون ذہنی صلاحیت کا قانون کیا ہے؟



ذہنی صلاحیت

دستیاب ، معلومات ، صورتحال اور اختیارات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور فیصلے کے نتائج کو سمجھنے کو ذہنی صلاحیت کہتے ہیں۔



یہ ایک قانون ہے جو فیصلہ سازی کے دوران 16 سال سے زیادہ عمر کے جسمانی یا ذہنی کمزور لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس قانون کے روسے ہر بالغ کو، چاہے اس کی معذوری کچھ بھی ہو، جہاں بھی ممکن ہو، اپنے فیصلے خود کرنے کا حق رکھتا ہے۔



لوگوں کو ہمیشہ اس شخص کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہیں ایسی معلومات فراہم کریں جسے وہ سمجھ سکیں یا کوئی اسکو مصلح کو مختلف طریقے سے سمجھا سکیں۔



اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ایسی معلومات فراہم کریں جسے وہ کسی دوسرے طریقے سے سمجھ سکیں یا سمجھا سکیں جیسے کہ آسان زبان میں پڑھنا یا تصویر شکل میں پیش کرنا۔



لیکن اگر کوئی فیصلہ کسی شخص کے لیے بہت بڑا یا پیچیدہ ہے، یہاں تک کہ مناسب معلومات اور مدد کے باوجود فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی مدد کرنے والے کیئرر یا وارث کو ان کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے۔



ذہنی صلاحیت کے قانون یا ایکٹ کے 5 اہم اصول



1 ہمیشہ فرض کریں کہ متاثر شخص فیصلہ کرنے کے قابل ہے جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔



2



فیصلہ کرنے والے شخص کی حمایت کرنے کے لیے
ہر ممکن کوشش کریں۔ تاکہ وہ خود فیصلہ کریں



3

یہ نہ سمجھیں کہ اس شخص میں فیصلہ کرنے کی
صلاحیت نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایسا فیصلہ
کرتا ہے جو آپ کے خیال میں غیر دانشمندانہ یا
غلط ہے۔



4

اگر آپ کسی ایسے شخص کے لیے فیصلہ کرتے ہیں جو
خود نہیں کر سکتا، تو فیصلہ ہمیشہ کرنے میں ان
کے بہترین مفاد میں ہونا چاہیے۔



5

کسی بھی فیصلے، علاج یا کسی ایسے شخص کی دیکھ
بہال جس میں ذہنی صلاحیت نہیں ہے ہمیشہ ان کے
بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں پر کم سے کم
پابندی ہو